

## English Translation Test-1

Time Allowed: 40Minutes

Note:

1. Assignment must be handwritten.
2. Upload it in "Quiz/Assignment" section, otherwise it will not be checked.

Name: Aiman Mehmood

Batch: 039

Campus: \_\_\_\_\_

**Q. Translate the following into English, keeping in view the idiomatic/figurative expression.  
(10)**

اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپکی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ میں خوف خدا پیدا کرتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسطرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ کے پاؤں برائی کے راستے پر جانے سے رک جاتے ہیں تو پھر آپ صالح ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا مسلسل تذکیہ اور مجاہدے کا عمل ہے۔ اس میں وقت لگتا ہے اور تکلیفیں بھی سہنا پڑتی ہیں۔

\*\*\*\*\*

You are a righteous person — if this worldly life <sup>does not</sup> doesn't attract you, fear of Allah <sup>makes</sup> gets your eyes teary, <sup>the</sup> concept of hell creates fear of ~~Allah~~ <sup>God</sup> in you, worshipping Allah as you are obliged to worship Him, goodness attracts you and you are not able to follow the evil path. Some are righteous; others become righteous. Being righteous is a matter of luck, while becoming a righteous is the process of constant sanctification and observation — it takes time and pain.

If you are not lured by the world, if your eyes get wet because of fear of Allah, if the thought of hell instills fear of God in you, if you worship Allah as it ought be done, if goodness attracts you and you refrain from evil paths, then you are righteous/pious. Some are born righteous, some become righteous. Being righteous is a fortunate thing. Becoming righteous is a continuous process of purification and struggle. It takes time and also requires enduring hardships.

Avoid cutting